

کیا تہ فتنہ دگرگیر

جلد سوم

<p>نام انبیا نبین گوارا کر سکے خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>۴۸۶ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>
<p>پیارے میں گرہ بہت چہر تھار جھکو پر زمین فاطمہ کے پیار سے پیارے جھکو</p>	<p>ایک کی چوم کے پیشانی کو وہ زونے کی ایک کو چھاتی سے لپٹا کے جی جھونکی</p>	<p>الروض سلظوم سے مسوب تھی وہ تار کی پانی بھی مانیاب کی جو بھی</p>
<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>
<p>مامون رحمت محمدین ان فرزند سے پہلے ہو جو تم خدمت خاتون میں سب سے پہلے</p>	<p>ہم میں شہید کا سہرتی سے جدا ہوتا ہے خلق میں خاتمہ آل عبد مہدی</p>	<p>کیا کوئی وہ بھی تھے چاہتے کیونکر اسکو گنتے تھے زندیا خون کے برابر اسکو</p>
<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>	<p>خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ خداوند بیکار و بیچارہ</p>
<p>فاطمہ چھاتی سے زینب کو لگا پونگی اور مری رحمت سے منہ اپنا پھر لویگی</p>	<p>پسہ رو پیٹری عقدہ کشائی کردو حشر میں فاطمہ تک میری ساری کردو</p>	<p>ایک پیار وہ دونوں کو کیا کرتی تھی سب سے ایک دم انکو تہ جا کرتی تھی</p>

<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>
<p>پسے شہید کیا جانے لگا اور انہ کی          بھائی پیارے سے کسی کو پیار کیا</p>	<p>پاس آداب سے ہم پر نہیں کہہ سکتے تھے          نہ تو جا سکتے تھے مگر گونہہ کر سکتے تھے</p>	<p>سیر اور سخن لباس اب چھپایا مگو          قدریہ قاسم و اکبر ہوسن یا تمکو</p>
<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>
<p>پیارا بیو لگو کیا کام نہ یہ توب کیسا          تو نے زہرا سے ہمایت کی ہے چو کیا</p>	<p>اب دین سے ضار کی دلا دو ہمکو          باغ فردوس کے رستہ سے لگا دو ہمکو</p>	<p>تاکہ چھاتی سے لے لگو گانے زہرا          قدریہ قاسم و اکبر تھیں جاتے زہرا</p>
<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>	<p>سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم          سبحان ربك رب العرش العظيم</p>
<p>عوق ہوں بجز نہ امت میں لگا لو مجکو          طغہ حیدر زہرا سے ہی لگو مجکو</p>	<p>دیکھ لو عین عین دو گھا سا ہمارا سرد          خوب رو لون تھیں چھاتی سے لگا کر سرد</p>	<p>و سے میں اب عین رحمت الاکامہ میں          بھلے سے میں عین سید انجمن اب یا کہ میں</p>

<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>
<p>جیسے وہ پیار میں ویسے میں ہر مہینے      بھانجے چاروں محبت میں ہر مہینے</p>	<p>میں تعانی رکھ کر کہہ کی ہوائی قلم      دم جسکے رتب حضرت کی انسانی قلم</p>	<p>عرض کی اسنے کہ وقت جو آئی ہو نہیں      اپنے یہ دونوں سپر یہ کہ لائی ہو نہیں</p>
<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>
<p>بھیجے زمین اچھین روح تمہیر کے لیے      کہ ہر آنسو کو دیکھ کر دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>انکھ پھر ساکنے کے بھگے کرنا ہی      اب ہو یہ جیتے رہے زندگی بھر مرنے ہی</p>	<p>کہ جب باعث سپر راجت آرام کے ہیں      اسے کام یہ آئین تو یہ پھر کام کے ہیں</p>
<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>	<p>عاشق کی ہر بات کو سنا کر      دل میں لہریں اٹھانے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا      ہر آنسو کو دیکھ کر      دل میں ہنسنے لگا</p>
<p>جیسے زکو جو وہ قدر شہر حیلے      یہ ادھر سے چلے اعدا کے ادھر تھر چیلے</p>	<p>دل مر اٹھا ہو رو رو سے رو سے زینب      یہ سے پیشے حسن بن سونکی ہو زینب</p>	<p>ابھی وہ طفل ضمیر ہے تو کھو بھی ہی      اسے ہے اس خواہنے تو سو بھی ہی</p>

<p>جیسے تھی وہی وہی          جیسے تھی وہی وہی          جیسے تھی وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>
---	--	--

<p>کہتے تھے وہی وہی کوئی نہیں کرے          جسکو دعویٰ ہو مگر وہی کوئی کرے</p>	<p>کیا کوئی نہیں دلا وہی کوئی نہ تھی          دو نون بھائی ہو گیا وہی نہ تھی</p>	<p>یہ ہے وہی وہی کے ساتھ          سرخ رو شکرہ اور نہ پریا ہے</p>
---	--	--

<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>
--	--	--

<p>زمین مس کے اچھو کے پیاسے آئے          چھدری شان چھدر کے نواسے آئے</p>	<p>دو نون پر فوج لین کھینچی تواری          وہ گرس گھوڑے چاکہ اکبر گری</p>	<p>ہوئی وہ منہ میں کرنی ہیندیا رہتے          جس قدر تو اس دم سے ہوا رہتے</p>
--	---	--

<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>	<p>جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی          جیسا کہ تھا وہی وہی</p>
--	--	--

<p>ہر بھائی جو ہر جاوے تھا کہا قدم          چھوٹا آگے کوچا جاتا تھا چوہ قدم</p>	<p>لکھے اچھین قاسم و بس اور ابر تھا ہے          یا نون تھامے تھا کوئی اور کوئی تھا ہے</p>	<p>شہ پہ تھا ہر قوم آج چھو کے پیاسے          سرخ رو مجھ کو قیامت میں کیا ہے</p>
---	---	---

میں سے راجی میں نہایت ہوتی اور فخر مندوں  
 کہ یہ سعادت ملی تیرا جو سعادت منب  
 دل میں ایشا کی پانچ بہت و زیب  
 کہ چون نہ بن جائے مگر وہ جو تم لوگوں میں

تجھے ہم طور سے امان کو رضامند کی  
 جیتے بھی شاد رکھ مگر کے بھی خوشد کی

کہیں تم دونوں کے بھی نسبت میں ایسے یاد  
 کہ اپنے کلام وقت میں سوچو  
 کہ تم دونوں کے بھی نسبت میں ایسے یاد  
 کہ اپنے کلام وقت میں سوچو

عوض کی دونوں پہان جیتے کوئی آن میں ہم  
 جون چراغ سحری آنکے مہمان میں ہم

بارگ و لکھنؤ و احوال نہ کہ تو ارقام  
 باری باری جو گئے ریختن غم میں ان امام  
 غم کے وقت تک ہو گئے سوچو بھی تمام  
 اقتضار اب بڑا خواہ بہنیں کلام

عام شہین بیش کہ ایک ملک روتے ہیں  
 اسکو باران نہ کہو نم سے فلک و تہ ہیں